

# Startup India International Summit

January 14, 2021

## اسٹارٹ اپ انڈیا انٹرنیشنل سمٹ

14 جنوری، 2021

1- 'پرارمبہ'۔ اسٹارٹ اپ انڈیا انٹرنیشنل سمٹ کا انعقاد 15 سے 16 جنوری، 2021 کے درمیان ورچوئل موڈ میں ڈیپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ (ڈی پی آئی آئی ٹی) کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سمٹ میں اسٹارٹ اپ انڈیا اقدام کے آغاز کے 5 سال کا جشن منایا جا رہا ہے، جس نے ملک کے کونے کونے میں کاروبار کے جذبے کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ قابل احترام وزیر برائے تجارت اور صنعت 15 جنوری کو سمٹ کا افتتاح کریں گے، اور محترم وزیر اعظم 16 جنوری کو سمٹ کے گرینڈ پلینری (اختتامی سیشن) میں شریک ہوں گے۔

2- اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پرارمبہ سمٹ پوری دنیا کے اعلیٰ پالیسی سازوں، صنعت، تعلیمی اداروں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرے گی۔ دنیا بھر کے بہترین ماحولیاتی نظام کے اچھے طریقوں پر غور کرنے کے علاوہ، اس سمٹ کے سیشن کو ہندوستان میں جدت کاری پر مبنی کاروبار کے پھیلاؤ اور گہرائی کو ظاہر کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سمٹ کا مقصد ہندوستان میں اسٹارٹ اپ کے لئے عالمی سرمایہ کی توجہ مرکوز کرنا ہے، اور گھریلو سرمایے کو جمع کرنا اور اسے بروئے کار لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہمارے اسٹارٹ اپ کو مواقع فراہم کرنا ہے، مزید برآں اس کام کے لئے پالیسی احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے۔

3- اس سمٹ کا پہلا دن ہمسٹیک اسٹارٹ اپ کانفرنس کی میزبانی کے لئے مختص کیا گیا ہے۔ یہ بات خطے کے تاجروں کے مابین رابطے بڑھانے کے مقصد کے لئے اگست 2018 میں کھٹمنڈو میں منعقدہ چوتھے ہمسٹیک سمٹ میں معزز وزیر اعظم کے اعلانات میں سے ایک تھا۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، میانمار، نیپال اور سری لنکا کے وزراء اور سینئر عہدیدار کے علاوہ تھائی لینڈ کی قومی انوویشن ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ہمسٹیک کے سکرٹری جنرل نے اس اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔

4- دو دن پر مشتمل اس سمٹ میں مختلف موضوعات پر اسٹارٹ اپ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی شرکت میں پینل ڈسکشن ہوں گے۔ بمسٹیک اسٹارٹ اپ کانفرنس میں، بہترین طریقوں کو شیئر کرنا، نالج ایکسچینج ورکشاپ، ملٹی لیٹرل انکیوبیٹر پروگرامس اور سوشل انوویشن کو فروغ دینے کے موضوعات پر سات پینل ڈسکشن ہوں گے۔ ورچوئل اسٹارٹ اپ شوکیس میں بمسٹیک ممالک کے 100 سے زیادہ اسٹارٹ اپ حصہ لیں گے۔ منتخب کردہ اسٹارٹ اپس بشمول بمسٹیک ممالک کے اسٹارٹ اپ کو گرینڈ پلینری اجلاس میں معزز وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔

5- اس ورچوئل سمٹ میں دنیا بھر اور ہندوستان سے 200 سے زائد مشہور مقررین شرکت کریں گے، اور اس میں ٹکنالوجی، جدت کاری، مضبوط پالیسیوں اور اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے میں مدد ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں کو اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے اور نوجوان ہندوستانی کاروباری افراد کے دماغ کو جلا بخشنے کا موقع ملے گا۔ یہ بات انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو درپیش مشکلات اور چیلنجوں کے حل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔

نئی دہلی

14 جنوری، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.